

2019 CSS Translation

Pakistan is committed for peace in Afghanistan because peace in Afghanistan is very ^{vital} important for Pakistan. From historical perspective, being neighbourly and Islamic countries, Pakistan and Afghanistan are tied in historical, cultural and linguistic relationships. These relations are everlasting; both are interdependent and neither can live without the other. From the very beginning, Pakistan wanted political solution of Afghan issue. China also supports this stance. China has said that the only solution of Afghan issue is negotiations involving Afghan leadership. For the sake of strategic partnership, Pakistan and China will play their role to resolve Afghan issue through negotiations.

well done
good work
satisfactory 7/10

Translation passage in
2nd picture below



Q.7. Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions. (10)

پاکستان، افغانستان میں امن کے لیے نئے مزم ہے کیونکہ افغانستان میں امن، پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ جبریتی تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان بڑی بر اور اسلامی ملک ہونے کے باوجود جبریتی، مخالفی، لسانی برشتوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ دونوں کا ٹھکانا ایک دوسرے پر ہے اور دونوں الگ الگ رہ بھی نہیں سکتے۔ پاکستان کا موقف روز اول سے یہی رہا ہے کہ افغان مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے۔ اس موقف کی عملیت چمکن بھی کرتا ہے اس ضمن میں چمکن نے کہا ہے کہ افغان تنازع کا افغان قباحت میں ہونے والے امن مذاکرات سے ہی حل ممکن ہے۔ پاکستان اور چمکن مشترک شراکت داری کے لیے افغان تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔
